



سوال

کیا خاوند اور بیوی میں سے کسی ایک کی وفات کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا بیوی کی وفات کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ اور اگر شوہر پہلے فوت ہو جائے تو کیا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ صحیح حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ اور احادیث کا حوالہ بھی دے دیں۔

جواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد!

ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو بات صحیح اور کتاب و سنت سے ثابت ہو، عموماً اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، جبکہ اس کے برخلاف خاندانی رسوم و رواج اور خود ساختہ مسائل کو کہیں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی خلاف ورزی کو انتہائی معیوب گردانا جاتا ہے۔

اسی قسم کے خود ساختہ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کی میت کو، یا شوہر اپنی بیوی کی میت کو نہ ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ غسل دے سکتا ہے اور نہ اسے قبر میں اتار سکتا ہے۔

اس کی بنیاد یہ گھڑی گئی ہے کہ موت سے شوہر اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو جاتے ہیں۔

حالانکہ متعدد احادیث و آثار سے ثابت ہے کہ زوجین میں سے ایک کی وفات کے بعد، ان میں سے زندہ شخص میت کو ہاتھ لگانا اور دیکھنا تو درکنار، غسل تک دے سکتا ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَيْتِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صَدْعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: «وَأَرَأَيْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِي حَيْضٌ» فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ لَوْ مِتَّ قَبْلِي، فَخَشَعْتُ عَلَيْكَ، وَكَفَّنْتُكَ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ، وَوَفَّنْتُكَ» (سنن ابن ماجہ، الجنازہ: 1465) (صحیح)

رسول اللہ ﷺ بقیع سے آئے تو دیکھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور میں کہہ رہی ہوں: ہائے میرا سر! نبی ﷺ نے فرمایا: ”بلکہ عائشہ! میں (کہتا ہوں): ہائے میرا سر! پھر فرمایا: ”تمہارا کیا نقصان ہے اگر تمہاری وفات مجھ سے پہلے ہو گئی؟ (اس صورت میں) میں خود تمہارے لیے (کفن و دفن کا) اہتمام کروں گا، تمہیں خود غسل دوں گا، خود کفن پہناؤں گا، خود تمہارا جنازہ پڑھوں گا اور خود دفن کروں گا۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں:

لَوْ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَفْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاءُهُ (سنن ابی داؤد، الجنازہ: 3141) (صحیح)

اگر مجھے اس معاملے کا پہلے علم ہو جاتا جس کا بعد میں ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتیں۔

اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی تھی کہ انہیں ان کے شوہر سیدنا علی رضی اللہ عنہ غسل دیں۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی: 6740)



وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

محدث فتویٰ کمیٹی